

خود کا حال چال بتائیں انگلش کے ان فقرات سے

I'm good.	میں اچھا ہوں۔
How about you?	تم کیسے ہو؟
I am ok.	میں ٹھیک ہوں۔
Not so great.	اتنا زبردست نہیں۔
Not so well.	اتنا اچھا نہیں۔
I'm feeling awesome today,	میں آج بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں،
Pretty good.	بہت اچھا۔
I'm fantastic, thank you.	میں مزے میں ہوں، شکریہ۔
I am well.	میں بہتر ہوں۔
I have been better.	میں بہتر رہا ہوں۔
I am fine.	میں ٹھیک ہوں۔
How are things with you?	آپ کے حالات کیسے ہیں؟
So far so good and you?	اب تک اتنا اچھا اور تم؟
Nothing much.	کچھ خاص نہیں۔
Oh, just the usual.	اوہ، ہمیشہ کی طرح۔
I'm alright, thanks for asking.	میں ٹھیک ٹھاک ہوں، پوچھنے کا شکریہ۔
Like you, but better.	آپ کی طرح، لیکن بہتر۔
I'm feeling a little stressed.	میں تھوڑا سا تناؤ محسوس کر رہا ہوں۔
Not too bad.	اتنا برا بھی نہیں۔
I'm feeling awesome today	میں آج بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔
I'm feeling a little tired.	میں تھوڑی سے تھکن محسوس کر رہا ہوں۔
Yeah, all right.	ہاں، ٹھیک ہے۔
I am alive.	میں زندہ ہوں۔